

19 جنوری 2018

## برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ابھرتے ہوئے فائر فائٹرز کی معاونت کرنے کے لیے معاشی معاونت کی پیشکش کرتی ہے

برامپٹن، آن - جارج ہچکاک برسری (George Hitchcock Bursary) کے لیے درخواستیں دینے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ہر سال، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، آگ بجھانے کی خدمات میں اپنا کیریئر تلاش کرنے والے کسی مقامی طالب علم کی جارج ہچکاک برسری کے ذریعے مدد کرتی ہے۔ برسری سے حاصل ہونے والی مالی معاونت کو کامیاب طلباء بعد از ثانوی کلاسوں کی ٹیوشن فیس کی ادائیگی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

درخواست دہندہ کو لازمی طور پر برامپٹن میں موجود ایک کینیڈین باشندہ (یا کینیڈا میں کام کرنے کے قابل) ہونا چاہیے، جو آگ بجھانے سے تعلق رکھنے والے کسی اونٹاریو پوسٹ سیکنڈری ڈپلومہ کے حصول کی کوشش کر رہا ہو۔ درخواست فارم آن لائن یہاں پر دستیاب ہیں [www.bramptonfire.com](http://www.bramptonfire.com) اور لازمی طور پر اس پتہ پر بھیجنے چاہیں [firelife@brampton.ca](mailto:firelife@brampton.ca)

درخواستیں جمع کروانے کا دورانیہ 30 اپریل 2018 کو یا 30 درخواستیں موصول ہونے پر، جو بھی پہلے ہو جائے، ختم ہو جائے گا۔ شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کا انٹرویو لیا جائے گا اور ایک درخواست دہندہ کو کورس میں اندراج کروانے پر \$1,000 کی برسری کی ادائیگی کیے جانے کے لیے منتخب کیا جائے گا۔

یہ انڈومنٹ فنڈ عوامی چندے سے آنے والی \$31,000 کی ابتدائی رقم سے شروع کیا گیا تھا۔ اسکالرشپ کے لیے دی جانے والے رقم ہر سال مختلف ہوتی ہے۔

برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے 2014 میں فائر سروسز میں کیریئر ڈھونڈنے والے افراد کی معاونت کرنے کے لیے جارج ہچکاک میموریل انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا۔ یہ فنڈ مرحوم جناب جارج ہچکاک کی تعظیم میں عمل میں لایا گیا ہے، جنہوں نے برامپٹن فائر سروس میں 33 سال خدمات انجام دیں اور فائر/لائف سیفٹی ایجوکیشن ڈیویژن کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔

مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں [www.bramptonfire.com](http://www.bramptonfire.com) یا ای میل کریں [firelife@brampton.ca](mailto:firelife@brampton.ca)

اقتباس:

"یہ برسری جارج کے اُس جذبے کی میراث ہے جو وہ فائر سروسز اور آگ اور آگ سے زندگیاں بچانے کی تعلیم میں بہتری لانے کے لیے رکھتے تھے۔ ہم ان کی اس میراث کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور نئے آنے والے فائر فائٹرز کی معاونت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اس کمیونٹی کی خدمت کر سکیں اور ایمرجنسی سروسز کی شان کو بڑھانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر سکیں۔"

- فائر چیف بل بوئیز۔

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط

شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں [ٹویٹر](#) اور [فیس بک](#)۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ فرمائیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوارٹینٹیر

سٹی آف برامپٹن

[natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca) | 905.874.3654